

12544 - دوسری شادی کے لیے پہلی بیوی کی رضامندی شرط نہیں

سوال

میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ مندرجہ ذیل موضوع میں کسی حدیث یا پھر شریعت اسلامیہ کی رائے کی معرفت میں میرا تعاون فرمائیں :

جب کوئی عورت کسی شخص سے شادی شدہ ہو اور اس نے دوسری کے علم کے بغیر کوئی اور بھی شادی کر رکھی ہو ، یہ کہنے کی توجہ کی تو ضرورت نہیں کہ یہ حالت بہت مشکل ہے ، اور اس نے میرے ساتھ بہت دور کی حد تک استثناء کیا ہے ، لیکن ظاہر یہ ہوتا ہے کہ حالات کے لیے یہی افضل اور بہتر تھا ۔

پسندیدہ جواب

الحمد لله.

ایک سے زیادہ شادی کرنے کے لیے پہلی بیوی کی رضامندی شرط نہیں ، اور نہ ہی خاوند پر فرض ہے کہ وہ جب دوسری شادی کرنا چاہے تو اپنی پہلی بیوی کو راضی کرے ، لیکن یہ مکارم اخلاق اور ایک اخلاقی فریضہ اور اس سے حسن معاشرت ہے کہ وہ اس کا بھی خیال رکھے اور اس کی تکلیف کو کم کرنے کی کوشش کرے جو کہ اس جیسے معاملے میں عورت کی طبیعت میں شامل ہوتی ہے ۔

اور اسے اچھی اور بہتر ملاقات اور ملنے میں مسکراتے چہرے اور اچھی بات کہہ کر اور اگر کچھ مال میسر ہو اور اس کی ضرورت تو وہ بھی دے کر راضی کیا جائے ۔ دیکھیں فتاویٰ اسلامیہ (3 / 204) ۔

خاوند پر واجب ہے کہ جب وہ دوسری شادی کرے تو حسب استطاعت اپنی بیویوں کے مابین عدل و انصاف کرے ، اور اگر وہ عدل و انصاف نہیں کرتا تو پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جاری کردہ وعید میں شامل ہوگا ۔

ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

(جس کی بھی دو بیویاں ہو اور وہ ان میں سے کسی ایک کی طرف مائل ہو تو روز قیامت وہ اس حالت میں آئے گا کہ اس کی ایک جانب بھی مائل ہوگی) سنن نسائی باب عشرة النساء حدیث نمبر (3881) ۔

علامہ البانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کو صحیح سنن نسائی (3682) میں صحیح کہا ہے ۔

اور جب اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک سے زیادہ عورتوں کے ساتھ شادیاں کرنا مباح قرار دیا تو کچھ اس طرح فرمایا :
، لیکن اگر تمہیں برابری اور عدل نہ کرسکنے کا خوف ہو تو ایک ہی کافی ہے یا تمہاری ملکیت کی لونڈی ، یہ زیادہ
قریب ہے کہ تم ایک طرف جھک پڑنے سے بچ جاؤ النساء (3) -

تواللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ اگر وہ انصاف نہیں کرسکتا ہے تو ایک ہی کافی ہے -

اللہ تعالیٰ ہی سیدھے راہ کی توفیق بخشنے والا ہے -

دیکھیں فتاویٰ منار الاسلام (2 / 570) -

واللہ اعلم .